



کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ نے جو کچھ حلال قرار دیا اسے  
وہ حرام ٹھہرا دیتا اور تم اسے حرام سمجھنے لگتے تھے؟ اور  
جو کچھ اللہ نے حرام قرار دیا اسے وہ حلال ٹھہرا دیتا تھا اور  
تم اسے حلال سمجھنے لگتے تھے؟ میں نے جواب دیا کہ: کیوں  
نہیں، ایسا ہی ہوتا تھا آپ نے فرمایا: یہی تو ان کی عبادت  
کرنا ہے

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا: ”اتَّخَذُوا  
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبحَانَهُ عَمَّا  
يُشْرِكُونَ“ (التوبہ: 31) ترجمہ: ”انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی  
طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا،  
وہ اللہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں“  
(عدی کہتے ہیں) میں نے آپ سے کہا: ہم (زمانہ کفر میں) ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے آپ نے  
فرمایا: ”کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ نے جو کچھ حلال قرار دیا اسے وہ حرام ٹھہرا دیتا اور تم اسے حرام  
سمجھنے لگتے تھے؟ اور جو کچھ اللہ نے حرام قرار دیا اسے وہ حلال ٹھہرا دیتا تھا اور تم اسے حلال سمجھنے  
لگتے تھے؟“ میں نے جواب دیا: ہاں، کیوں نہیں، ایسا ہی ہوتا تھا آپ نے فرمایا: ”یہی تو ان کی عبادت  
کرنا ہے“

[صحیح] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے]

جب اس جلیل القدر صحابی نے رسول اللہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا  
ذکر ہے انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو معبود بنا لیا بایں طور کہ وہ ان کے لیے ایسے قوانین وضع کرتے جو  
اللہ کی شریعت کے مخالف ہوتے اور وہ اس میں ان کی اطاعت کرتے، تو انہیں اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے  
میں اشکال ہوا کیونکہ ان کے خیال میں عبادت صرف سجدے وغیرہ تک محصور تھی اس پر رسول اللہ نے  
وضاحت فرمائی کہ یہ بھی احبار و رہبان کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے  
برخلاف حلال کو حرام ٹھہرانے اور حرام کو حلال ٹھہرانے میں ان کی اطاعت کی جائے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3384>